



TRUST SECURITIES & BROKERAGE LTD

BALLOT PAPER

Ballot Paper for voting through post for the Special Businesses at the Extraordinary General Meeting to be held on Wednesday, December 17, 2025 at 3:30 p.m. at Suite No. 401, 4th Floor, Business & Finance Centre, I.I. Chundrigar Road Karachi.

Contact Details of the Chairperson at which the duly filled in ballot paper may be sent:

The Chairperson, Trust Securities & Brokerage Limited, Suite No. 401, 4th Floor, Business & Finance Centre, I.I. Chundrigar Road, Karachi. Attention of the Company Secretary.

E-mail address: company.secretary@tsbl.com.pk Phone: +92-21-111-000-875

Website: www.tsbl.com.pk

Folio / CDS Account Number	
Name of Shareholder / Proxy Holder	
Registered Address	
Number of shares Held	
CNIC/Passport No. (in case of foreigner) (copy to be attached)	

Additional information and enclosures (In case of representative of body corporate, corporation and Federal Government).

Name and CNIC of Authorized Signatory	
---------------------------------------	--

I/we hereby exercise my/our vote in respect of the following Special Resolution through postal ballot by conveying my/our assent or dissent to the following resolution by placing tick (✓) mark in the appropriate box below: (In case if both the boxes are marked as (✓), your poll shall be treated as "Rejected").

Sr. No.	Agenda/Description of Special Resolutions	I/We assent to the Resolution(s) (FOR)	I/We dissent to the Resolution(s) (AGAINST)
1.	<p>"RESOLVED THAT, pursuant to Section 85(1)(c) of the Companies Act, 2017 and Article 4 of the Articles of Association of the Company, the existing capital of the Company, including authorized, issued, and paid-up capital, be and is hereby altered such that the face value of each ordinary share of the Company is changed from Rupees Ten (Rs. 10/-) to Rupee One (Rs. 1/-), thereby subdividing each share into ten (10) ordinary shares of Rs. 1/- each, with no change in the rights and privileges attached to the shares."</p> <p>"FURTHER RESOLVED THAT the Authorized Capital of the Company be subdivided from 75,000,000 ordinary shares of Rs. 10/- each to 750,000,000 ordinary shares of Rs. 1/- and issued/ subscribed/paid-up Capital of the Company be subdivided from 30,000,000 ordinary shares of Rs. 10/- each to 300,000,000 ordinary shares of Rs. 1/- each."</p> <p>"FURTHER RESOLVED THAT the Clause V of the Memorandum of Association and Article 4 of the Articles of Association of the Company be amended accordingly to reflect the above subdivision."</p>		
2.	<p>"RESOLVED THAT the members of the Company hereby approve the establishment and incorporation of a wholly-owned subsidiary of Trust Securities & Brokerage Limited (TSBL), as a Private Limited Company to undertake Information Technology (I.T.) and related services, including software development, system integration, data center/data warehouse, digital transformation, data analytics, and other technology-driven solutions, in accordance with the Companies Act, 2017 and applicable SECP regulations."</p> <p>"FURTHER RESOLVED THAT the Chief Executive Officer or the Company Secretary of the Company be and are hereby singly authorized and empowered to take all necessary steps to effectuate the aforementioned all resolutions and to complete any or all necessary corporate and legal compliances and formalities to give effect to the above, including announcement of closure of Members' Registers, determination of effective date, issue/credit of new physical and electronic shares and all other regulatory requirements".</p>		

- Duly filled ballot paper should be sent to the Chairperson of Trust Securities & Brokerage Limited at Suite No. 401, 4th Floor, Business & Finance Centre, I.I. Chundrigar Road, Karachi. Attention of the Company Secretary or e-mail at company.secretary@tsbl.com.pk
- Copy of CNIC/Passport (in case of foreigner) should be enclosed with the postal ballot form.
- Ballot paper should reach the Chairperson within business hours by or before Tuesday, December 16, 2025. Any postal Ballot received after this date, will not be considered for voting.
- Signature on postal ballot should match with signature on CNIC/Passport (in case of foreigner).
- Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written ballot paper will be rejected.
- In case of a representative of a body corporate, corporation or Federal Government, the Ballot Paper Form must be accompanied by a copy of the CNIC of an authorized person, an attested copy of Board Resolution / Power of Attorney / Authorization Letter etc., in accordance with Section(s) 138 or 139 of the Companies Act, 2017 as applicable. In the case of foreign body corporate etc., all documents must be attested by the Counsel General of Pakistan having jurisdiction over the member.
- Ballot Paper form has also been placed on the website of the Company at: www.tsbl.com.pk Members may download the Ballot paper from the website.

Shareholder / Proxy holder Signature/
Authorized Signatory
(In case of corporate entity, please affix company stamp)

شیر ہولڈر اپرا کسی ہولڈر کے ذریعہ اعجاز و سحر کا گنبد
(اگرچہ یہ سچی کی صورت میں، نہ کہ رقم کی شکل میں)



TRUST SECURITIES & BROKERAGE LTD

BALLOT PAPER

Ballot Paper for voting through post for the Special Businesses at the Extraordinary General Meeting to be held on Wednesday, December 17, 2025 at 3:30 p.m. at Suite No. 401, 4th Floor, Business & Finance Centre, I.I. Chundrigar Road, Karachi.

Contact Details of the Chairperson at which the duly filled in ballot paper may be sent:

The Chairperson, Trust Securities & Brokerage Limited, Suite No. 401, 4th Floor, Business & Finance Centre, I.I. Chundrigar Road, Karachi. Attention of the Company Secretary.

E-mail address: company.secretary@tsbl.com.pk Phone: +92-21-111-000-875

Website: www.tsbl.com.pk

Folio / CDS Account Number	
Name of Shareholder / Proxy Holder	
Registered Address	
Number of shares Held	
CNIC/Passport No. (in case of foreigner) (copy to be attached)	

Additional information and enclosures (In case of representative of body corporate, corporation and Federal Government).

Name and CNIC of Authorized Signatory	
---------------------------------------	--

I/we hereby exercise my/our vote in respect of the following Special Resolution through postal ballot by conveying my/our assent or dissent to the following resolution by placing tick (✓) mark in the appropriate box below. (In case if both the boxes are marked as (✓), your poll shall be treated as "Rejected").

Sr. No.	Agenda/Description of Special Resolutions	I/We assent to the Resolution(s) (FOR)	I/We dissent to the Resolution(s) (AGAINST)
1.	<p>"RESOLVED THAT, pursuant to Section 85(1)(c) of the Companies Act, 2017 and Article 4 of the Articles of Association of the Company, the existing capital of the Company, including authorized, issued, and paid-up capital, be and is hereby altered such that the face value of each ordinary share of the Company is changed from Rupees Ten (Rs. 10/-) to Rupee One (Rs. 1/-), thereby subdividing each share into ten (10) ordinary shares of Rs. 1/- each, with no change in the rights and privileges attached to the shares."</p> <p>"FURTHER RESOLVED THAT the Authorized Capital of the Company be subdivided from 75,000,000 ordinary shares of Rs. 10/- each to 750,000,000 ordinary shares of Rs. 1/- and issued/ subscribed/paid-up Capital of the Company be subdivided from 30,000,000 ordinary shares of Rs. 10/- each to 300,000,000 ordinary shares of Rs. 1/- each."</p> <p>"FURTHER RESOLVED THAT the Clause V of the Memorandum of Association and Article 4 of the Articles of Association of the Company be amended accordingly to reflect the above subdivision."</p>		
2.	<p>"RESOLVED THAT the members of the Company hereby approve the establishment and incorporation of a wholly-owned subsidiary of Trust Securities & Brokerage Limited (TSBL), as a Private Limited Company to undertake Information Technology (I.T.) and related services, including software development, system integration, data center/data warehouse, digital transformation, data analytics, and other technology-driven solutions, in accordance with the Companies Act, 2017 and applicable SECP regulations."</p> <p>"FURTHER RESOLVED THAT the Chief Executive Officer or the Company Secretary of the Company be and are hereby singly authorized and empowered to take all necessary steps to effectuate the aforementioned all resolutions and to complete any or all necessary corporate and legal compliances and formalities to give effect to the above, including announcement of closure of Members' Registers, determination of effective date, issue/credit of new physical and electronic shares and all other regulatory requirements".</p>		

- Duly filled ballot paper should be sent to the Chairperson of Trust Securities & Brokerage Limited at Suite No. 401, 4th Floor, Business & Finance Centre, I.I. Chundrigar Road, Karachi. Attention of the Company Secretary or e-mail at company.secretary@tsbl.com.pk
- Copy of CNIC/Passport (in case of foreigner) should be enclosed with the postal ballot form.
- Ballot paper should reach the Chairperson within business hours by or before Tuesday, December 16, 2025. Any postal Ballot received after this date, will not be considered for voting.
- Signature on postal ballot should match with signature on CNIC/Passport (in case of foreigner).
- Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written ballot paper will be rejected.
- In case of a representative of a body corporate, corporation or Federal Government, the Ballot Paper Form must be accompanied by a copy of the CNIC of an authorized person, an attested copy of Board Resolution / Power of Attorney / Authorization Letter etc., in accordance with Section(s) 138 or 139 of the Companies Act, 2017 as applicable. In the case of foreign body corporate etc., all documents must be attested by the Counsel General of Pakistan having jurisdiction over the member.
- Ballot Paper form has also been placed on the website of the Company at: www.tsbl.com.pk Members may download the Ballot paper from the website.

Shareholder / Proxy holder Signature/
Authorized Signatory

(In case of corporate entity, please affix company stamp)

ٹرسٹ سیکورٹیز اینڈ بروکریج لمیٹڈ



بیلٹ پیپر

مؤرخہ 17 دسمبر، 2025ء، بوقت 03:30 بجے دوپہر کو کھلی کے رجسٹرڈ چھ سویت نمبر 401، چوچی منزل، پرنس اینڈ ٹرانس سینٹر، 11، چنڈر نگر روڈ، کراچی میں منعقد ہونے والے ٹرسٹ سیکورٹیز اینڈ بروکریج لمیٹڈ کے غیر معمولی اجلاس عام میں قراردادوں کے انتخابات کے لئے جیتز میں کاغذ پر مقررہ ای میل ایڈریس، جس پر کچھ طریقے سے مقررہ جگہ پر بھیجے جاسکتے ہیں:-
جیتز پر سن کے رابطے کی تفصیلات جس پر کچھ طریقے سے مقررہ جگہ پر بھیجے جاسکتا ہے۔ جیتز پر سن ٹرسٹ سیکورٹیز اینڈ بروکریج لمیٹڈ سویت نمبر 401، چوچی منزل، پرنس اینڈ ٹرانس سینٹر، 11، چنڈر نگر روڈ، کراچی کھلی بکری کی توجہ۔

ای میل ایڈریس: company.secretary@tsbi.com.pk، فون: +92-21-111-000-875
ویب سائٹ: www.tsbi.com.pk

فولیو نمبر/سی ڈی ایس اکاؤنٹ نمبر	
شیئر ہولڈر/پراگسی ہولڈر کا نام:	
رجسٹرڈ ایڈریس:	
منعقدہ حصص کی تعداد	
CNIC / پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی کی صورت میں) (کاپی منسلک ہونی چاہئے)	

اضافی معلومات اور انکوائریز (ہاڈی کارپوریت، کارپوریشن اور وفاقی حکومت کے نام سے کی صورت میں)۔

مجاز دھنڈا کنندہ کا نام اور CNIC	
----------------------------------	--

میں/ہم مندرجہ ذیل قرارداد کے سلسلے میں اپنا ووٹ پائلٹ کے ذریعے استعمال کرتے ہوئے مندرجہ ذیل قرارداد پر اپنی اپنی رضامندی یا عام ووٹ ذیل میں مناسب جگہ میں لکھ (✓) کا نشان لگا کر استعمال کرتے ہیں: (اگر دونوں خانوں پر) (✓) کا نشان لگایا گیا ہے تو آپ کے پائل کو "مسز" سمجھا جائے گا۔

نمبر	قرارداد کی نوعیت اور تفصیل	میں/ہم قرارداد پر رضامند ہیں (FOR)	میں/ہم قرارداد کے خلاف ہیں (AGAINST)
1-	"قرارداد پانچ، کچھیز ایکٹ، 2017ء کے سیکشن 85(1)(c) اور کھلی کے آرٹیکل آف ایسوسی ایشن کے آرٹیکل 4 کے مطابق، کھلی کا موجودہ سرمایہ بشمول مجاز، جاری کردہ اور ادائیگہ سرمایہ، ہر اس طرح تبدیل کیا جاتا ہے کہ کھلی کے ہر عام حصے کی قیمت دس روپے (Rs.10/-) سے ایک روپے (Rs.1/-) تبدیل کر دی جاتی ہے، اس طرح ہر حصص کو 1 روپے کے دس (10) عام حصص میں ذیلی تقسیم کیا جاتا ہے جس میں حصص سے منسلک حقوق اور مراعات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔" "مزید قرارداد پانچ کھلی کے مجاز کھلی کو 10/- روپے کے 75,000,000/- عام حصص سے ہر ایک کو 1/- روپے (Rs.1) کے 750,000,000 عام حصص میں تقسیم کیا جائے اور کھلی کے جاری کردہ اسسٹریٹجک/ادائیگہ کے لئے سرمایے 10/- روپے کے 30,000,000 عام حصص ہر 1 روپے (Rs.1) والے 300,000,000 عام حصص میں کو ذیلی تقسیم کیا جائے۔" "مزید قرارداد پانچ کیو سی آف ایسوسی ایشن کی حق 17 اور کھلی کے آرٹیکل آف ایسوسی ایشن کے آرٹیکل 4 میں مندرجہ بالا ذیلی تقسیم کی مکمل کرنے کے لئے اس کے مطابق ترمیم کی جائے۔" "قرارداد پانچ کچھیز ایکٹ کے مطابق، اور قابل اطلاق SECP ضوابط کے تحت کھلی کے اراکین اس طرح ایک پرائیویٹ لمیٹڈ کھلی کے طور پر انٹرمیڈیٹ ٹیکنالوجی (IT) اور متعلقہ خدمات بشمول سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ، سسٹم انٹیکریشن، ڈیٹا سینٹر/ڈیٹا گودام، ڈیجیٹل ٹرانسماریشن، ڈیٹا اینلیٹکس، اور ٹیکنالوجی سے چلنے والے دیگر ٹرسٹ سیکورٹیز اینڈ بروکریج لمیٹڈ (TSBI) کے مکمل ملکیتی ذیلی ادارے کے قیام اور شمولیت کی منظوری دیتے ہیں۔" "مزید قرارداد پانچ کھلی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر یا کھلی سکرٹری کو مذکورہ بالا قراردادوں کو عملی جامہ پہنانے کے لئے تمام ضروری اقدامات کرنے اور کسی بھی یا تمام ضروری کارپوریٹ اور قانونی فیصلے مندرجہ بالا، بشمول ممبر رجسٹر کی بندش کا اعلان، موثر تاریخ کا تعین، نئے فوٹیکل اور انٹیکلر ایکٹ حصص اور دیگر تمام ریگولیٹری ضروریات کا کریڈٹ اور ریگولیٹری کارروائیوں کو مکمل کرنے کے لئے سیکھے جانے والے اقدامات اختیار کیا جائے۔"		
2-			

پیشہ و طے جیتز پر سن ٹرسٹ سیکورٹیز اینڈ بروکریج لمیٹڈ سویت نمبر 401، چوچی منزل، پرنس اینڈ ٹرانس سینٹر، 11، چنڈر نگر روڈ، کراچی کے سچے پراسرار کیا جائے۔ بیلٹ پیپر ای میل کے ذریعے بھی کھلی بکری کی توجہ کے ساتھ company.secretary@tsbi.com.pk پر بھیجا جاسکتا ہے۔

- بیلٹ پیپر کے ساتھ شناختی کارڈ (CNIC) کی کاپی، جبکہ غیر ملکی اراکین کے لئے پاسپورٹ کی کاپی منسلک کرنا لازمی ہے۔
- بیلٹ پیپر ہر دستخط 16 دسمبر 2025ء کے کارروائی کے دوران یا اس سے قبل جیتز پر سن کو موصول ہونا ضروری ہے۔ مقررہ تاریخ کے بعد موصول ہونے والا کوئی بھی پائلٹ بیلٹ بیلٹ نہیں کیا جائے گا۔
- بیلٹ پیپر دھنڈا شناختی کارڈ یا پاسپورٹ پر موجود دھنڈا سے مطابقت رکھنے چاہیں۔
- ناکمل بیلٹ دھنڈا، مقررہ اجازت پر پناہ دیا اور رائٹنگ والا کلٹ پیپر قابل قبول قرار دیا جائے گا۔
- کارپوریٹ ادارے کے کارپوریشن اور وفاقی حکومت کے نام سے کی صورت میں، بیلٹ پیپر کے ساتھ مجاز شخص کے شناختی کارڈ کی کاپی، پورڈیز و لیون، پاور آف اٹارنی یا اٹارنی نیشنل لیٹر کی تصدیق کاپی منسلک کرنا لازمی ہے، جو کچھیز ایکٹ 2017ء کی دفعات 138 و 139 کے مطابق ہو۔ غیر ملکی کارپوریٹ اداروں کی جانب سے جمع کرائے گئے تمام دستاویزات پاکستان کے متعلقہ قوانین و ضوابط سے تصدیق شدہ ہونے چاہیں۔
- بیلٹ پیپر قائم کھلی کی ویب سائٹ www.tsbi.com.pk پر بھی دستیاب ہے، جہاں سے اراکین ایسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔

شیئر ہولڈر/پراگسی ہولڈر کے دھنڈا/مجاز دھنڈا کنندہ
(کارپوریٹ کی صورت میں، ہر کارپوریٹ کی ڈاک گفٹ لگائی)